



**FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**COMPETITIVE EXAMINATION-2019**  
**FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17**  
**UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT**  
**BALOCHI**

Roll Number

<b>TIME ALLOWED: THREE HOURS</b>	<b>PART-I (MCQS)</b>	<b>MAXIMUM MARKS = 20</b>
<b>PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES</b>	<b>PART-II</b>	<b>MAXIMUM MARKS = 80</b>
<b>NOTE: (i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book.</b> <b>(ii) Attempt ONLY FOUR questions from PART-II. Answer must be written in respective language except where specified in the question paper. ALL questions carry EQUAL marks.</b> <b>(iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places.</b> <b>(iv) Write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q.Paper.</b> <b>(v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed.</b> <b>(vi) Extra attempt of any question or any part of the question will not be considered.</b>		

**PART-II**

- (20) سوال نمبر 2۔ جہل و دانتیں سر حال لاں چہ یکے سر اسد لبز نبشتہ بکن ات۔  
 (i) ماتی زبان ء وانگ ء ارزشت ء بشارت  
 (ii) بلوچستان ء چاگردی ء مالی جاو رانی سر اچا کینہ پاکستان کور یڈور ء اثرات  
 (iii) بلوچی گیدی لبز انک ء ربیت ء بند پتر
- (20) سوال نمبر 3۔ بلوچی آزمائک ء دمیروی ء سان ء اثرات اٹما چون گند ات۔  
 (20) سوال نمبر 4۔ ملائی اہد ء شاعری ء فارسی زبان ء اثرات اٹما چون گند ات۔  
 (20) سوال نمبر 5۔ چاچ جی انت۔ چاچ ء ساڑا کنان ء چندے چاچ ہم نبشتہ بکن ات۔  
 (20) سوال نمبر 6۔ جہل و دانتیں دو دمانی گالبدانی معنہاں گوں گوئڈ گری ء نبشتہ بکن ات۔  
 آسپ، بجاری، باہوٹ، مہمانداری، بیرگری، ہڈپروشی
- (20) سوال نمبر 7۔ بلوچی ء کسمانک نویسی ء ربیت ء بابت ء نبشتہ بکن ات۔  
 (10) سوال نمبر 8۔ الف۔ جہل و دانتیں بلوچی ٹیکسٹ ء انگریزی ء رجانک بکن ات۔  
 بلوچی کو نہیں لبز انک وتی زبان ء بیان ء سر حال ء بنگپ ء رد اسر جم ء بلوچی ربیدگی زند ء گوں بندوک انت۔ بلوچی عہدی شعرانی اندر ء  
 بلوچ رواجی زند، ربیدگ، چاگرد، مالیات ء قدر ء اقدارانی در شان پہ ڈول ء دابے کنگ بوتگ، پیشکد گشت بیت کہ بلوچی کو نہیں لبز انک  
 وتی در شان ء رد اسر جم ء گوں بلوچی زند ء هنگر نچ ء همگو نگ انت۔
- (10) ب۔ جہل و دانتیں انگریزی ٹیکسٹ ء بلوچی ء رجانک بکن ات۔

Balochi is surrounded by languages belonging to at least five language families. In the Balochi mainland, it stands in contact with other Iranian Languages and dialects, Persian (Farsi, Dari and Sistani) and Bashlardi in the west and northwest, Pashto in the north and northeast, as well as with the Indo-Aryan languages of Urdu, Panjabi, Lahnda, and Sindhi in the northeast and east. In the Gulf States, Balochi is spoken alongside Arabic (a Semitic Language), and in East Africa, it is in contact with Bantu Languages, such as Swahili. In the central parts of Balochistan, the Dravidian language Brahui has lived in symbiosis with Balochi for centuries, and in Turkmenistan, Balochi is in contact with Turkmen (a Turkic Language). In the diaspora, Balochi is meeting new languages, mainly of the Indo-European family.

\*\*\*\*\*